

Jos

Chapter 11

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיְהִי	כִּשְׁמֹעַ	יָבִין	מֶלֶךְ-	חֲצוֹר	וַיִּשְׁלַח	אֶל-	יּוֹבָב	מֶלֶךְ	מָדוֹן
	اور-ہوا	جب-سنا	یابین-نے	بادشاہ-کے	حضور	تو-اُس-نے-بھیجا	کی-طرف	یوباب	بادشاہ-کے	مادون
	H1961	H8085	H2985	H4428	H2674	H7971	H0413	H3103	H4428	H4068
	وַאֲל-	מֶלֶךְ	שִׁמְרוֹן	וְאֶל-	מֶלֶךְ	אֶכְשָׁף:				
	اور-کی-طرف	بادشاہ-کے	شمرون	اور-کی-طرف	بادشاہ-کے	اکشاف				
	H0413	H4428		H0413	H4428	H0407				

بھیجے۔ پیغام کو بادشاہوں کے اکشاف اور سمرون اور یوباب بادشاہ کے مدون نے اُس تو ملی خبر کی واقعات ان کو یابین بادشاہ کے حضور جب

2	וְאֶל-	הַמְּלָכִים	אֲשֶׁר	מִצְפּוֹן	בְּהָר	וּבְעֶרְבָה	גִּב	כְּנָרוֹת		
	اور-کی-طرف	بادشاہوں-کے	جو	شمال-میں	پہاڑی-علاقے-میں	اور-عرب-میں	جنوب-میں	کَنَرَوَت		
	H0413	H4428		H6828	H2022	H6160	H5045	H3672		
	וּבְשִׁפְלָה	וּבְנָפוֹת	דָּוָר	מִיָּם:						
	اور-نشیبی-علاقے-میں	اور-نافوت-میں	دور	مغرب-سے						
	H8219		H1756	H3220						

گلیل یعنی کَنَرَت جو میں حصے اُس کے بردن وادی میں، علاقے پہاڑی شمالی یعنی تھے میں شمال جو بھیجے پیغام کو بادشاہوں ان نے اُس علاوہ کے اس میں دور نافت واقع میں مغرب میں، علاقے پہاڑی نشیبی کے مغرب ہے، میں جنوب کے

3	הַכְּנַעֲנִי	מִמִּזְרַח	וּמִיָּם	וְהָאֱמֹרִי	וְהַחֲתִי	וְהַפְּרִזִי	וְהַיְבוּסִי	בְּהָר	וְהַחֲתִי	תַּחַת
	کنعانی	مشرق-سے	اور-مغرب-سے	اور-اموری	اور-جتی	اور-فرزی	اور-یبوسی	پہاڑ-میں	اور-جوی	نیچے
	H3318	H1992	H3605	H0567	H2850	H6522	H2983	H2022	H2340	H8478
	חַרְמוֹן	בְּאֶרֶץ	הַמִּצְפָּה:							
	حرمون	سرزمین-میں	مصفاہ-کی							
	H2768	H0776	H4709							

کے مصفاہ ملک واقع میں دامن کے پہاڑ حرمون اور یبوسیوں کے علاقے پہاڑی فرزیوں، جتیوں، اموریوں، نے یابین میں۔ مغرب اور مشرق کے کنعان اور بھیجے۔ پیغام بھی کو جویوں

4	וַיִּצְאוּ	הֵם	וְכָל-	מַחֲנֵיהֶם	עִמָּם	עַם-	רָב	כַּחֲזוֹל	אֲשֶׁר	עַל-	שְׂפַת-
	اور-نکلے	وہ	اور-سب	لشکر-ان-کے	ان-کے-ساتھ	لوگ	بہت	ریت-کی-مانند	جو	پر	ساحل
	H3318	H1992	H3605	H4264				H2344			H8193
	הַיָּם	לְרֹב	וְסוֹס	וְרֶכֶב	רַב-	מְאֹד:					
	سمندر-کے	کثرت-سے	اور-گھوڑے	اور-رتھ	بہت	زیادہ					
	H3220	H7230		H7393	H3966						

رتھ اور گھوڑے متعدد پاس کے ان تھے۔ بے شمار مانند کی ریت کی ساحل کے سمندر آدمی کے ان نکلے۔ لئے کے جنگ کر لے کو فوجوں تمام اپنی یہ چنانچہ تھے۔ بھی

5	וַיִּצְעְדוּ	כָּל	הַמְּלָכִים	הָאֵלֶּה	וַיָּבֵאוּ	וַיַּחֲנוּ	יַחְדָּו	אֶל-	מִי	מִדְּוָם
	اور-اکٹھے-ہوئے	سب	بادشاہ	یہ	اور-آئے	اور-خیمہ-زن-ہوئے	اکٹھے	پاس	پانیوں-کے	میروم
	H3259	H3605	H4428	H0428	H0935	H2583		H0413	H4325	H4792
	לְהִלָּחֵם	עִם-	יִשְׂרָאֵל:	פ						
	لڑنے-کے-لیے	ساتھ	اسرائیل	—						
			H3478							

دیئے۔ لگا پر چشمے کے میروم خیمے اپنے کر بو متحد لئے کے لڑنے سے اسرائیل نے بادشاہوں تمام ان

6 **וַיֹּאמֶר** اور-کہا **יְהוָה** یہوواہ-نے **אֵל** سے **יְהוֹשֻׁעַ** یشوع **אֶל-** **תִּירָא** ڈر **כִּי-** کیونکہ **מִפְּנֵיהֶם** اُن-کے-سامنے-سے **מָחָר** کل **כָּעַת** اِسی-وقت **הַזֹּאת** اِس **H0559** **H3068** **H0413** **H3091** **H0408** **H3372** **H6440** **H4279** **H6256** **H2063**

אֲנֹכִי میں **נָתַן** دینے-والا-ہوں **אֶת-** کو **כָּל־** اُن-سب-کو **חַלְלִים** مارے-ہوئے **לִפְנֵי** سامنے **יִשְׂרָאֵל** اسرائیل-کے **אֶת-** کو **סוּסֵיהֶם** گھوڑوں-اُن-کے **הַעֲקָר** ٹو-کاٹ-ڈالے-گا **H0595** **H5414** **H0853** **H3605** **H6440** **H3478** **H0853**

וְאֶת- اور-کو **מִרְכַבְתֵיהֶם** رتھوں-اُن-کے **הַשָּׂרָף** ٹو-جلا-دے-گا **בְּאֵשׁ:** آگ-سے **H0853** **H4818** **H8313** **H0784**

کی گھوڑوں کے اُن تجھے گا۔ ہو دیا کر حوالے کے اسرائیل کے کر ہلاک کو سب اُن نے میں تک وقت اِسی کل کیونکہ ڈرنا، مت سے اُن کہا، سے یشوع نے رب ہے۔ دینا جلا کو رتھوں کے اُن اور کاٹنا کو کونچوں

7 **וַיָּבֵא** اور-آیا **יְהוֹשֻׁעַ** یشوع **וְכָל-** اور-سب **עַם** لوگ **הַמִּלְחָמָה** جنگ-کے **עִמּוֹ** اُس-کے-ساتھ **עָלֵיהֶם** اُن-پر **עַל-** پاس **מִי** پانیوں-کے **מִרוֹם** میروم **פְּחָאֵם** اچانک **H0935** **H3091** **H3605** **H4421** **H4325** **H4792** **H6597**

וַיַּפְּלוּ اور-حملہ-کیا **בָהֶם:** اُن-پر **H5307**

کیا۔ حملہ پر دشمن اچانک اور آیا پر چشمے کے میروم کر لے کو فوجیوں تمام اپنے یشوع چنانچہ

8 **וַיִּתְּנֵם** اور-دیا-انہیں **יְהוָה** یہوواہ-نے **בְּיַד-** ہاتھ-میں **יִשְׂרָאֵל** اسرائیل-کے **וַיִּכּוּם** اور-مارا-انہیں **וַיִּרְדְּפוּם** اور-پیچھا-کیا-اُن-کا **עַד-** تک **צִידוֹן** صیدوں **רְבָה** بڑے **H5414** **H3068** **H3027** **H3478** **H5221** **H7291** **H5704** **H6721**

וְעַד اور-تک **מִיַּם שְׂרָפוֹת** مسرفوت-مائم **וְעַד-** اور-تک **בְּקַעַת** وادی **מִצְפָּה** مصفاہ-کی **מִזְרְחָה** مشرق-کی-طرف **וַיִּכּוּם** اور-مارا-انہیں **עַד-** تک **בְּלַתִּי** کہ-نہ **הַשְּׂאִיר-** بچا **H5704** **H4956** **H5704** **H1237** **H4708** **H4217** **H5221** **H5704** **H1115** **H7604**

לָהֶם اُن-کے-لیے **שָׂרִיד:** کوئی-بچا-ہوا **H8300**

مسرفات اور صیدا شہر بڑے میں شمال کرتے کرتے تعاقب کا اُن اور دی شکست انہیں نے اسرائیلیوں دیا۔ کر حوالے کے اسرائیلیوں کو دشمنوں نے رب اور بچا۔ نہ بھی ایک میں آخر کیا۔ تعاقب کا اُن بھی تک مصفاہ وادی میں مشرق نے انہوں طرح اِسی پہنچے۔ جا تک مائم

9 **וַיַּעַשׂ** اور-کیا **אֶת-** اُن-کے-ساتھ **יְהוֹשֻׁעַ** یشوع-نے **כַּאֲשֶׁר** جیسے **אָמַר-** کہا-تھا **לוֹ** اُسے **יְהוָה** یہوواہ-نے **אֶת-** کو **סוּסֵיהֶם** گھوڑوں-اُن-کے **עֲקָר** کاٹ-ڈالا **וְאֶת-** اور-کو **H0853** **H3068** **H0559** **H3091** **H0853** **H3068** **H0853**

מִרְכַבְתֵיהֶם رتھوں-اُن-کے **שָׂרָף** جلا-دیا **בְּאֵשׁ:** آگ-سے **H4818** **H8313** **H0784**

دیا۔ جلا کو رتھوں کے اُس کر کتوا کو کونچوں کی گھوڑوں کے دشمن نے یشوع مطابق کے ہدایت کی رب

10 **וַיֵּשֶׁב** اور-لونا **יְהוֹשֻׁעַ** یشوع **בְּעֵת** اُس-وقت **תְּהִיא** اُس **וַיִּלָּכְד** اور-فتح-کیا **אֶת-** کو **חֲצוֹר** حاصور **וְאֶת-** اور-کو **מֶלְכָה** بادشاہ-اُس-کے **הַכָּה** مارا **בְּחָרֵב** تلواری-سے **H7725** **H3091** **H6256** **H1931** **H3920** **H0853** **H2674** **H0853** **H4428** **H5221** **H2719**

כִּי- کیونکہ **חֲצוֹר** حاصور **לְפָנָיִם** پہلے **הָיָא** وہ **רֹאשׁ** سردار **כָּל-** سب **הַמְּמַלְכוֹת** سلطنتوں-کی **הָאֵלֶּה:** اِن **H2674** **H6440** **H1931** **H3605** **H4467** **H0428**

شہر نے اسرائیلیوں تھی۔ دی شکست نے انہوں جنہیں تھا مقام صدر کا بادشاہتوں تمام اُن حاصور لیا۔ لے میں قبضے اپنے کو حاصور اور آیا واپس یشوع پھر دیامار کو بادشاہ کے

11	וְיָבוּ אֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לִפְי-חָרֵב חֲרָם לֹא נֹתֵר כָּל-אֶת-מָרָא	اور-مارا	کو	سب	جانوں	جو	اُس-میں	دھار-سے	تلوار-کی	حرام-کر-کے	نہیں	بچا	کوئی
		H5221	H0853	H3605	H5315		H6310	H2719	H3808	H3498	H3605		

נְשָׂמָה	וְאֶת-חֲצוֹר	שָׂרָף	כָּאֵשׁ:
سانس-والا	اور-کو	حاصور	جلا-دیا
H5397	H0853	H2674	H0784

دیا۔ جلا کو شہر نے یسوع پھر بچا۔ نہ بھی ایک دیا۔ کر ہلاک کے کر حوالے کے اللہ کو جاندار ہر کے شہر اور

12	וְאֶת-כָּל-עָרֵי הַמְּלָכִים-הָאֵלֶּה וְאֶת-כָּל-מְלֻכֵיהֶם	اور-کو	سب	شہروں-کے	بادشاہوں	ان	اور-کو	سب	بادشاہوں-ان-کے	فتح-کیا	یہوشع-نے
		H0853	H3605	H4428	H0428	H0853	H3605	H4428	H4428	H3920	H3091

וַיִּכַּם	לְפִי-חָרֵב	הַחֲרִים	אֹתָם	כָּאֲשֶׁר	צָנָה	מֹשֶׁה	עֲבָד	יְהוָה:	
اور-مارا-انہیں	دھار-سے	تلوار-کی	حرام-کر-دیا	انہیں	جیسے	حکم-دیا-تھا	موسیٰ-نے	بندے	یہوواہ-کے
H5221	H6310	H2719	H0853	H6680	H4872	H5650	H3068		

کے موسیٰ خادم کے رب نے اُس کو شہر ہر تھے۔ گئے ہو متحد خلاف کے اسرائیل جو لیا کر قبضہ بھی پر شہروں کے بادشاہوں باقی اُن نے یسوع طرح اسی گیا دیا کر نیست کچھ سب سمیت بادشاہوں دیا۔ کر تباہ مطابق کے حکم

13	رַק מִגֵּר כָּל-הָעָרִים	مگر	سب	شہروں-کو	جو-کھڑے-تھے	پر	ٹیلوں-اپنے	نہیں	جلایا	اسرائیل-نے	سوائے	کے
		H7535	H3605	H5975	H8510	H3808	H8313	H3478	H2108	H0853		

חֲצוֹר	לְבָדָה	שָׂרָף	יְהוָה:
حاصور	اکیلے	جلایا	یسوع-نے
H2674	H0905	H8313	H3091

دیا۔ رہنے نے اُس کو شہروں باقی کے پر پہاڑیوں جلایا۔ کو حصور صرف نے یسوع لیکن

14	وְכָל-לُوط-כָּאֵשׁ	اور-سب	لوٹ-کا-مال	شہروں-کے	ان	اور-مویشی	لوٹ-لیا	اپنے-لیے	بنی	اسرائیل-نے	مگر	کو
		H3605	H7998	H0428	H0929	H0962	H1992	H3478	H7535	H0853		

כָּל-הָאָדָם	הַכּוֹף	לְפִי-חָרֵב	עַד-	הַשְּׂמָרָם	אֹתָם	לֹא	הַשְּׂאִירוֹ	כָּל-נְשָׂמָה:
سب	آدمیوں	مارا	تک-کے	فنا-کر-دیا	انہیں	نہیں	بچایا	کوئی
H3605	H0120	H5221	H6310	H2719	H5704	H8045	H0853	H3808

بچنے نہ بھی ایک اور ڈالا مار نے انہوں کو باشندوں تمام لیکن لیا۔ رکھ پاس اپنے نے اسرائیلیوں اُسے گیا پایا میں اُن سمیت جانوروں مال بھی جو کا لوٹ دیا۔

15	כָּאֲשֶׁר	צָנָה	יְהוָה	אֶת-מֹשֶׁה	עֲבָדוֹ	כִּן-	וַיִּסְרֹף	יְהוָה
جیسے	حکم-دیا-تھا	یہوواہ-نے	موسیٰ	بندے-اپنے	ویسے	حکم-دیا	موسیٰ-نے	کو
H6680	H3068	H4872	H5650	H6680	H0853	H3091	H0853	H3091

וְכֹן	עָשָׂה	יְהוָה	לֹא-	הַחֲסִיר	דְּבָר	מִכָּל	אֲשֶׁר-	צָנָה	יְהוָה	אֶת-
اور-ویسے-ہی	کیا	یسوع-نے	نہیں	بتایا	بات	سب-سے	جو	حکم-دیا-تھا	یہوواہ-نے	کو
H3091	H3808	H5493	H1697	H3605	H6680	H3068	H0853	H3091	H3068	H0853

مُשָׁה:
موسیٰ
[H4872](#)

تھا۔ دیا حکم کو موسیٰ نے رب جیسے کیا ہی ویسے کچھ سب نے یسوع اور تھا، دیا حکم یہی کو موسیٰ خادم اپنے نے رب کیونکہ

16	וַיָּקַח	יְהוֹשֻׁעַ	אֶת-	כָּל-	הָאָרֶץ	הַזֹּאת	הַהַר	וְאֶת-	כָּל-	הַנֶּגֶב	וְאֶת	כָּל-
	اور لے لیا	یشوع نے	کو	سب	زمین	اس	پہاڑی علاقہ	اور کو	سارے	جنوب	اور کو	ساری
	H3947	H3091	H0853	H3605	H0776	H2063	H2022	H0853	H3605	H5045	H0853	H3605

سرمین	اَרֶץ	הַנָּשָׂן	וְאֶת-	הַנְּשִׁיבָה	וְאֶת-	הָעֲרָבָה	וְאֶת-	הַר	יִשְׂרָאֵל	וְשָׂפְלָתָה:
جوشن کی	اور کو	نشیبی علاقہ	اور کو	عربہ	اور کو	پہاڑ	اسرائیل کے	اور نشیب اس کا		
H0776	H1657	H0853	H8219	H0853	H6160	H2022	H3478	H8219		

اور بردن وادی علاقہ، پہاڑی نشیبی کا مغرب علاقہ، پورا کا جشن نجب، دشت پورا علاقہ، پہاڑی میں اس لیا۔ کر قبضہ پر کنعان پورے نے یشوع یوں تھے۔ شامل سمیت پہاڑیوں کی دامن کے ان پہاڑ کے اسرائیل

17	מִן-	הַהַר	הַחֲלָק	הַעֲזָרָה	שְׁעִיר	וְעַד-	גְּדֵבְעֵל	בְּבִקְעַת	הַלְבָּנוֹן	וְתַת	הַר-
	سے	پہاڑ	حلاق	جو چڑھتا ہے	سعیر کی طرف	اور تک	بعل جاد	وادی میں	لبنان کی	نیچے	پہاڑ
	H2022	H2510	H5927	H5704	H1171	H1237	H3844	H8478	H2022		

حرمون	וְאֶת	כָּל-	מְלִכֵיהֶם	לְזָד	וַיָּבֵס	וַיְמַיְתֵם:
اور کو	سب	بادشاہوں ان کے	فتح کیا	اور مارا انہیں	اور مار ڈالا انہیں	
H2768	H0853	H3605	H4428	H3920	H5221	H4191

دامن کے پہاڑ حرمون جو تھی تک جد بعل شہر کے علاقہ میدانی کے لبنان کر لے سے خلق پہاڑ والے بڑھنے طرف کی سعیر میں جنوب پہنچ کی یشوع اب ڈالامار کر پکڑ کو بادشاہوں تمام کے علاقوں ان نے یشوع تھا۔ میں

18	יָמִים	רַבִּים	עָשָׂה	יְהוֹשֻׁעַ	אֶת-	כָּל-	הַמְּלָכִים	הָאֵלֶּה	מִלְחָמָה:
دنوں	بہت	کی	یشوع نے	ساتھ	سب	بادشاہوں کے	ان	جنگ	
H3117	H3091	H0854	H3605	H4428	H0428	H4421			

لگا، وقت بہت میں کرنے جنگ سے بادشاہوں ان لیکن

19	לֹא-	הִיָּתָה	עִיר	אֲשֶׁר	הַשְּׁלִימָה	אֶל-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	בְּלָתִי	חַחוּי	יִשְׁבִּי
	نہیں	تھا	شہر	جس نے	صلح کی	ساتھ	بنی	اسرائیل کے	سوائے	جو یوں کے	باشندوں
	H3808	H1961	H0413	H3947	H0854	H3605	H4428	H0428	H4421	H2340	H3427

جبعون کے	وְגֵעוֹן	אֶת-	הַכָּל	לָקְחוּ	בְּמִלְחָמָה:
کو	سب	لے لیا	جنگ سے		
H1391	H0853	H3605	H3947	H4421	

کرنا قبضہ ہی کے کر جنگ پر سب ان کو اسرائیل لئے اس کی۔ نہ صلح سے اسرائیلیوں نے شہر بھی کسی علاوہ کے جو یوں والے رہنے میں جبعون کیونکہ پڑا۔

20	כִּי	מֵאֵת	וַיהוּדָה	הִיָּתָה	לְחַיִּק	אֶת-	לָבֶם	לְקַרְאֵת	הַמִּלְחָמָה	אֶת-	יִשְׂרָאֵל
کیونکہ	طرف سے	یہوواہ کی	تھا	سخت کرنا	کو	دلوں ان کے	سامنے	جنگ کے	ساتھ	اسرائیل	
	H0854	H3068	H1961	H2388	H0853	H7125	H4421	H0854	H3478		

لَمْعَن	הַחֲרִימָם	לְבִלְתִּי	הַיּוֹת-	לָהֶם	וְחַנָּה	כִּי	לְמַעַן	הַשְּׂמִידָם	כְּאֲשֶׁר	צָנָה
تاکہ	حرام کر دے	کہ نہ	ہو	ان کے لیے	رحم	کیونکہ	تاکہ	فنا کر دے	جیسے	حکم دیا تھا
H4616	H1115	H1961	H1992	H8467	H4616	H8045	H6680			

یہوواہ نے	וַיהוָה	אֶת-	מִזְשָׁה:	ס
کو	موسیٰ	—		
H3068	H0853	H4872		

لازم جائے۔ کیا ہلاک کے کر حوالے کے رب پر طور پورے انہیں بلکہ جائے کیا نہ رحم پر ان اور کریں جنگ سے اسرائیل وہ تاکہ تھا دیا اکڑنے انہیں نے ہی رب تھا۔ دیا حکم کو موسیٰ نے رب طرح جس جائے کیا نابود و نیست یوں انہیں کہ تھا

21 **וַיָּבֵא** اور-آیا **יְהוֹשֻׁעַ** ישوع **בְּעֵת** اُس-وقت **הָהִיא** اُس **וַיֵּכֶרֶת** اور-کاٹ-ڈالا **אֶת-** کو **הַעֲנָקִים** عناقیوں **מִן-** سے **הַהָר** پہاڑ **מִן-** سے **חֲבֹרֹן** حبرون **מִן-** سے

דְּבִיר دبیر **מִן-** سے **עֵנָב** عناب **וּמְכֹלָ** اور-سارے **הָר** پہاڑ **יְהוּדָה** یہوداہ-کے **וּמְכֹלָ** اور-سارے **הָר** پہاڑ **יִשְׂרָאֵל** اسرائیل-کے **עִמָּת** ساتھ **עָרֵיהֶם** شہروں-اُن-کے

הַחֲרִימָם **יְהוֹשֻׁעַ:**
حرام-کر-دیا **ישوع-نے**
[H3091](#)

میں علاقے پہاڑی کے اسرائیل اور یہوداہ جو تھے رہتے میں جگہوں تمام اُن اور عناب دبیر، حبرون، جو دیا کر بلاک کو عناقیوں تمام اُن نے ישوع وقت اُس دیا۔ کر تباہ کے کر حوالے کے اللہ سمیت شہروں کے اُن کو سب اُن نے اُس تھیں۔

22 **לֹא-** نہیں **נֹתָר** بچا **עֲנָקִים** عناقی **בְּאֶרֶץ** سرزمین-میں **בְּנֵי** بنی **יִשְׂרָאֵל** اسرائیل-کی **רַק** صرف **בְּעֵזָה** غزہ-میں **בְּנֵת** جت-میں **וּבְאֶשְׁדּוֹד** اور-اشدود-میں **נִשְׁאָרוּ:** بچے

[H3808](#) [H3498](#) [H6062](#) [H0776](#) [H3478](#) [H7535](#) [H5804](#) [H1661](#) [H0795](#) [H7604](#)

رہے۔ زندہ کچھ میں اشدود اور جات غزہ، صرف بچا۔ نہ بھی ایک سے میں عناقیوں میں علاقے پورے کے اسرائیل

23 **וַיִּקַּח** اور-لے-لیا **יְהוֹשֻׁעַ** ישوع-نے **אֶת-** کو **כָּל-** ساری **הָאָרֶץ** زمین **כָּל** سب-کے-مطابق **אֲשֶׁר** جو **דְּבִיר** کہا-تھا **יְהוּדָה** یہوواہ-نے **אֶל-** سے **מֹשֶׁה** موسیٰ

[H3947](#) [H3091](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0776](#) [H3605](#) [H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#)

וַיִּתְּנָהּ اور-دی-اُسے **יְהוֹשֻׁעַ** ישوع-نے **לְנַחֲלָהּ** میراث-کے-طور-پر **לְיִשְׂרָאֵל** اسرائیل-کو **כְּמַחְלָקָתָם** تقسیموں-کے-مطابق **לְשִׁבְטֵיהֶם** قبیلوں-اُن-کے **וְהָאָרֶץ** اور-زمین **שְׁקֵטָה** آرام-پائی

[H5414](#) [H3091](#) [H5159](#) [H3478](#) [H4256](#) [H7626](#) [H0776](#) [H8252](#)

מִמְלַחְמָה:
—
جنگ-سے
[H4421](#)

دے میں میراث کو اسرائیل کے کر تقسیم میں قبیلوں اُسے نے اُس پھر تھا۔ بتایا کو موسیٰ نے رب طرح جس کیا قبضہ یوں پر ملک پورے نے ישوع غرض گیا۔ بو قائم امان و امن میں ملک اور ہوئی، ختم جنگ دیا۔